

کی حمایت کے بدلے میں انہیں سماجی بہبود کے فوائد سے نوازتی رہے گی۔

جائزہ نگار کی رائے میں اگرچہ عرب دنیا میں کشادگی کی پالیسی کا آغاز ہوا ہے، لیکن کشادگی جمہوریت کے مترادف نہیں ہے۔ حالات کے تحت معتدل اقدامات کے باوجود عرب حکمرانوں کی استبدادیت کی خصوصیات برقرار رہیں گی۔ ان میں عدلیہ پر انتظامیہ کی بالادستی اور میڈیا پر سخت کنٹرول ہے۔ بنیادی حقوق کی عدم ضمانت اور موزوں سیاسی اپوزیشن کی کمی کا موضوع ہے اور مشتبہ انتخابات کے نکات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قانون کی نظروں میں برابری کے اصول کا جزوی اور غیر دیانتدارانہ استعمال اور رضا کار تنظیموں پر پابندیوں کو جاری رکھنے کا سلسلہ ہے۔ تجزیہ نگار کے مطابق اس وقت عرب حکومتیں اقتصادی، سیاسی اور سلامتی کے مسائل میں بری طرح گھری ہوئی ہیں۔ اس وقت ۲۰۳۰ سال پہلے کے مقابلے میں ان کا حلقہ اثر کچھ محدود ہو سکتا ہے، لیکن یہ کمزور نہیں ہے اور وہ اپنی قلمروں پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے پوری قوت سے لڑنے کو تیار ہیں۔

(عمانویل سیوان)

☆☆☆☆

مشرق وسطیٰ کی سیاست کا مطالعہ ۹۶-۱۹۳۶ء (۲۰)

جائزے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ نے گذشتہ ۵۰ سالوں میں مشرق وسطیٰ کے سیاسی نظام کو سمجھنے میں بہت کم پیش رفت کی ہے۔ موضوع کی پیچیدگی کی رکاوٹ، تحقیقی شعبوں کے درمیان محدود تعاون، ناکافی تحقیقی مہارت، دانشورانہ خاصیت کا نقصان، سرکردہ اول درجے کے دانشوروں کی کم تعداد، ایک ملک کی مہارت کا رجحان اور ناگمانی ماہرین کی تکلیف دہ فراہمی کے باعث امریکہ کے سیاسی دانشوران بہت حد تک مشرق وسطیٰ کی سیاست کو گرفت میں لینے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کمزور ریکارڈ کے باوجود مستقبل روشن دکھائی دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی کے مسائل کو تسلیم کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔

(جنرل اے بل)

☆☆☆☆

خلیج کا معرکہ (۳۵)

نومبر ۱۹۹۵ء میں ریاض میں امریکہ کی فوجی تنصیبات میں بم کا دھماکہ ہوا۔ ایک ایسا ہی دھماکہ جون ۱۹۹۶ء کو دہران میں ہوا، جس سے نہ صرف ۲۵ امریکیوں کی جانیں ضائع ہوئیں، بلکہ اس کے ساتھ امریکہ اور سعودی عرب نے اپنے عوام اور پوری دنیا کو سعودی عرب کے داخلی امن کے بارے میں جو